

Parent-Teacher Interviews



والدین اور اساتذہ کے انٹرویو کیلئے ہدایات

والدین اور اساتذہ کے انٹرویو سال میں دو تین بار سہ ماہی کے اختتام پر اُس وقت ہوتے ہیں جب رپورٹ کارڈ گھر بھیجی جاتی ہے۔ جہاں اساتذہ اور والدین کیلئے سکول میں ہر بچے کی کامیابی میں مدد کے بارے میں گفتگو کے مواقع ہوتے ہیں۔ یہ ملاقات بہت مختصر ہوتی ہے۔ عام طور پر 10 یا 15 منٹ کیلئے۔ اس مختصر ملاقات کا بہترین فائدہ اٹھانے کیلئے یہ ضروری ہے کہ انٹرویو سے پہلے تیاری کر لیں۔ اگر آپ کو مزید وقت کی ضرورت ہو تو ایک اور ملاقات کا پروگرام طے کر لیں۔

1. تیاری

اپنے بچے/بچی کی رپورٹ کارڈ پڑھیں۔ اپنے سوالات اور مسائل کے بارے میں نوٹس بنائیں۔ رپورٹ کے بارے میں اپنے بچے/بچی سے بات کریں۔ آپ استاد سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک لسٹ بنائیں۔

2. سوالات پوچھیں

وقت پر پہنچیں۔ اپنے سوالات کی فہرست اپنے ساتھ لائیں۔ استاد آپ کے بچے/بچی کی رپورٹ کا جائزہ لے گا/گی یا اُس کے کام کے نمونے دکھائے گا/گی۔ آپ اپنے بچے/بچی کی سکول میں پسند ناپسند کے بارے میں استاد کو بتائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہوم ورک بہت زیادہ یا بہت کم ہے تو اُس کے بارے میں استاد کو بتائیں۔ والدین اور استاد کے انٹرویو سختی سے صیغہ راز میں رکھے جاتے ہیں۔ ایسی ذاتی معلومات جو آپ کے بچے/بچی کی سکول میں ترقی یا رویہ پر اثر انداز ہو رہی ہوں اُن کے بارے میں بات کریں (جیسے خاندان میں بیماری یا ملازمت کی تلاش)۔ یہ معلومات استاد کو آپ کے بچے/بچی کو سمجھنے میں مدد کریں گی۔

- میرے بچے/بچی نے کیا کچھ بہتر طور پر کیا؟
- اُسے آگے بڑھنے کے لئے کونسی صلاحیتوں کی ضرورت ہے؟
- کیا میرے بچے کو اضافی مدد مل رہی ہے؟ (کون سے مضمون میں)
- آپکی ہوم ورک کے بارے میں کیا پالیسی ہے۔ ہوم ورک کے لئے میرے بچے کو کتنا وقت خرچ کرنا چاہیئے؟
- میرا بچہ/بچی دوسرے طلباء کے ساتھ کس طرح سے رہتا ہے؟
- میں اپنے بچے/بچی کو گھر پر کس طرح سے مدد کرسکتا/کرسکتی ہوں؟
- اگر میرے کچھ مزید سوالات ہوں تو آپ سے رابطے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟

گفتگو کے نوٹس بنائیں۔ تاکہ آپ اپنے بچے سے بات چیت کرسکیں

3. جائزہ

اپنے بچے/بچی سے بات کریں۔ استاد کی بیان کردہ مثبت باتوں پر زور دیں۔ مسائل میں بہتری لانے کے لئے جس مدد کی ضرورت ہے اس میں آپ اور استاد کیسے مدد کرسکتے ہیں۔ اُس کے بارے میں بات کریں۔